



## سوال

(288) خاوند کی کمائی سے چوری پیسے بچا کر کوئی چیز خریدنا

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی کمائی سے چوری پیسے بچا کر کوئی چیز خرید کر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری امی نے یا بھائی نے دی ہے تو شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

یہ سراسر ناجائز اور جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا لعنتی کام ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ مزید اپنے شوہر کو دھوکہ دینا بھی شرعاً حرام ہے۔ (من غش فلیس منا) تحفۃ الاحوذی ج ۲ باب ماجاء فی کراہیۃ المغنی ص ۲۷۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو دھوکہ کرے وہ ہمارے طریقہ پر نہیں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ محمدیہ

ج 1 ص 722

محدث فتویٰ